

# نیو یارک کے قابل رسائی الیکٹرانک بیلٹ کی درخواست

## ووٹر رجسٹریشن کی معلومات

آخری نام: \_\_\_\_\_ پہلا نام: \_\_\_\_\_ درمیانی نام کا پہلا حرف \_\_\_\_\_

گلی کا پتہ: \_\_\_\_\_

شہر: \_\_\_\_\_ ریاست: **NY** زپ کوڈ: \_\_\_\_\_ کاؤنٹی: \_\_\_\_\_

تاریخ پیدائش (ماہ/دن/سال): \_\_\_\_\_ فون نمبر (اختیاری): \_\_\_\_\_

ای میل پتہ: \_\_\_\_\_

میں اقرار کرتا/کرتی ہوں کہ مجھے پرنٹ کا عذر لاحق ہے، جس سے مراد کوئی ایسا عذر ہے جو مؤثر مطالعہ، تحریر، یا پرنٹ شدہ مواد کے استعمال میں خلل ڈالتا ہے اور یہ کہ ایسی معذوری بورڈ آف الیکشنز تک کا سفر اور بیلٹ پر نشان ڈالنے کی ڈیوائس کا استعمال کیے بغیر مجھے آزادانہ طور پر کاغذی بیلٹ پر ووٹ ڈالنے کا اہل ہونے میں ممانع ہے۔ یہ دستاویز جمع کرا کر، میں ہرجانہ دروغ حلفی کے تحت تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ میں امریکہ کا/کی شہری ہوں اور مجھے عذر لاحق ہے اور نجی طور پر اور آزادانہ طور پر ووٹ ڈالنے کے لیے قابل رسائی الیکٹرانک بیلٹ کی ضرورت ہے۔ میں مزید یہ تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ میں ایک اہل قرار یافتہ اور رجسٹرڈ (اور پرائمری کے لیے، اندراج یافتہ) ووٹر ہوں - اور یہ کہ اس درخواست میں درج معلومات صحیح اور درست ہیں اور یہ کہ یہ درخواست ایک حلف نامہ کے مساوی کے بطور تمام مقاصد کے لیے قبول کی جائے گی اور، اور اگر یہ غلط بیان پر مشتمل ہو تو، مجھے اسی جرمانے کا سزاوار بنائے گی جس کا میں نے پوری طرح سے حلف لیا ہے۔

یہاں دستخط کریں: X \_\_\_\_\_ تاریخ: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
دن/ماہ/سال

**تنبیہ:** ووٹ ڈالنے کے لیے آپ کا امریکی شہری ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ امریکی شہری نہیں ہیں تو، آپ کو قابل رسائی بیلٹ جاری نہیں کیا جائے گا۔ اس قابل رسائی بیلٹ کی درخواست میں غلط بیان دینے والا شخص قابل سزا جرم کا قصوروار ہے۔

اگر درخواست دہندہ بیماری، جسمانی معذوری یا پڑھنے کی عدم اہلیت کی وجہ سے دستخط کرنے سے قاصر ہو تو، درج ذیل بیان پر لازماً عمل درآمد کیا جائے۔ میرے نشان کے ذریعے، جس کی معرفت ہذا شہادت دی جاتی ہے، میں معرفت ہذا یہ بیان کرتا/کرتی ہوں کہ میں اعانت کے بغیر ایک قابل رسائی بیلٹ کے لیے اپنی درخواست پر دستخط کرنے سے قاصر ہوں کیونکہ میں اپنی بیماری یا جسمانی معذوری کے سبب لکھنے سے قاصر ہوں یا اس وجہ سے کہ میں پڑھنے سے قاصر ہوں/میں نے اپنے دستخط کے بدلے میں اپنا نشان ثبت کیا ہے، یا اس میں اعانت حاصل کی ہے/ (کسی مختار نامہ یا پہلے سے پرنٹ شدہ نامہ کی مہر کی اجازت نہیں ہے/ تفصیلی ہدایات دیکھیں۔)

تاریخ: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ووٹر کا نام: \_\_\_\_\_ نشان: \_\_\_\_\_  
دن/ماہ/سال

میں، زیر دستخطی، معرفت ہذا تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ اوپر نامزد ووٹر نے میری موجودگی میں اس درخواست پر اپنے نشان ثبت کیے اور میں انہیں اسی فرد کی حیثیت سے جانتا/جانتی ہوں جس نے مذکورہ درخواست پر اپنے نشان ثبت کیے اور میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ یہ درخواست ایک حلف نامہ کے مساوی کے بطور تمام مقاصد کے لیے قبول کی جائے گی اور، اور اگر یہ غلط بیان پر مشتمل ہو تو، مجھے اسی جرمانے کا سزاوار بنائے گی جس کا میں نے پوری طرح سے حلف لیا ہے۔

(نشان کے گواہ کے دستخط)

(نشان کے گواہ کا پتہ)

## یہ فارم جمع کرانے کے لیے ہدایات

یہ درخواست اسکرین ریڈنگ سافٹ ویئر کا استعمال کر کے بھرنے کے قابل ہونے کے لیے، آپ کو اسے ڈاؤن لوڈ کرنا اور Adobe Reader جیسے سافٹ ویئر کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ آپ Adobe Reader کو <https://get.adobe.com/reader> سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔

اس فارم پر دستخط کرتے وقت، آپ کا بورڈ آف الیکشنز معیاری ان پٹ کو ووٹر کے دستخط کے بطور قبول کرے گا۔ یہ فارم مکمل کرنے کے بعد، اسے محفوظ کریں اور اسے اپنے مقامی بورڈ آف الیکشنز کو ای میل کریں، ڈاک سے بھیجیں یا ہاتھ سے پہنچائیں۔ آپ اپنے مقامی بورڈ آف الیکشنز کے لیے رابطے کی معلومات آن لائن <https://publicreporting.elections.ny.gov/CountyBoardRoster/CountyBoardRoster> پر یا <https://elections.ny.gov> کو ملاحظہ کر کے تلاش کر سکتے ہیں۔

یہ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ انتخاب سے 10 دن پہلے کی ہے، لیکن جتنی جلدی ممکن ہو آپ کو اسے واپس کر دینا چاہیے۔

آپ کے درخواست جمع کرانے کے بعد، ایک قابل رسائی الیکٹرانک بیلٹ آپ کو ای میل کر دیا جائے گا۔ پہلے سے پتہ لکھے ہوئے اور پیشگی ادا شدہ واپسی لفافوں کا ایک سیٹ آپ کا بیلٹ بورڈ آف الیکشنز کو واپس بھیجنے میں استعمال کے لیے آپ کو ڈاک سے بھیجا جائے گا، یا آپ کے بیلٹ کے ساتھ آپ کو ای میل کردہ لفافے کے ٹمپلیٹ کو پرنٹ کر کے آپ ایک واپسی لفافہ بنا سکتے ہیں۔

بیلٹ مکمل کریں، اسے پرنٹ کریں، اسے لفافے میں رکھیں، اور لفافے کی پشت پر دستخط کریں۔ لفافے کی پشت پر کسی بھی جگہ دستخط قابل قبول ہے۔

بیلٹ واپس کرنے کے لیے، اسے دستی طور پر آپ کے مقامی بورڈ آف الیکشنز کو انتخابات کے دن 9 بجے صبح تک پہنچا دینا یا ڈاک سے اس طرح بھیجنا لازم ہے کہ اس پر انتخاب کے دن سے پہلے کا ڈاک کا نشان ڈالا ہوا ہو اور یہ انتخاب کے بعد زیادہ سے زیادہ 7 دنوں میں بورڈ آف الیکشنز کو موصول ہو جائے۔